



سوال

(176) کیا بدعتی اور مشرک شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا بدعتی اور مشرک شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

کافر یا مشرک کی اقتداء میں نماز درست نہیں خواہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث ہی کیوں نہ کہلاتا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **وَبَاطِلٌ نَّكَالُؤٌ یَعْمَلُونَ**

”جو وہ عمل کرتے ہیں وہ باطل ہیں“ بدعت اگر کفر و مشرک کے درجہ پر پہنچ جائے تو پھر وہ کفر و مشرک والا حکم ہی رکھتی ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

احکام و مسائل

نماز کا بیان ج 1 ص 156

محدث فتویٰ